

**"WE ARE GOING PINK
FOR TODAY."**



نیشنل انڈر 19 ون ڈے چیمپئن میں سندھ، ناردرن اور سنٹرل پنجاب نے اپنے اپنے میچز جیت لیے

لاہور، 17 اکتوبر 2020:

دفاعی چیمپئن سندھ اور ناردرن کی ٹیمیں نیشنل انڈر 19 ون ڈے چیمپئن شپ کے مسلسل تیسرے راؤنڈ میں ناقابل شکست رہنے کے تسلسل کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہیں۔ لاہور میں جاری ایونٹ میں سنٹرل پنجاب نے بھی دوسری فتح سمیٹ لی۔

قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے گئے میچ میں عادل ناز اور فیضان سلیم کی شاندار باؤلنگ کی بدولت ناردرن نے بلوچستان کو 9 وکٹوں کے بھاری مارجن سے شکست دے کر ایونٹ میں مسلسل تیسری کامیابی حاصل کر لی ہے۔ بلوچستان کی پوری ٹیم 92 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ عادل ناز اور فیضان سلیم نے 3،3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ناردرن نے مطلوبہ ہدف 15.5 اوورز میں محض 1 ایک وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ اوپنر حسن عابد کیانی 30 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ عادل ناز کو مین آف دی میچ قرار دیا گیا۔

اسکور کارڈ:

بلوچستان انڈر 19: 25 اوورز میں 92/10، فیض اللہ 17 اور محمد ابراہیم سینئر 14،
عادل ناز 21/3 اور فیضان سلیم 30/3
ناردرن انڈر 19: 15.5 اوورز میں 93/1، حسن عابد کیانی 30، محمد رضا المصطفیٰ
23 اور عبدالفضیح 19، اورنگزیب 29/1

ایل سی سی اے گراؤنڈ لاہور میں کھیلے گئے میچ میں حنین شاہ کی تیز رفتار باؤلنگ نے سنٹرل پنجاب کو دلچسپ مقابلے کے بعد کے پی کے خلاف 3 رنز سے فتح دلادی۔ 178 رنز کے تعاقب میں کے پی کی پوری ٹیم 174 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ نوجوان فاسٹ باؤلر نے 33 جبکہ ارحم نواب نے 34 رنز کے عوض 3،3 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ احمد خان 39 رنز بنا کر ٹاپ اسکورر رہے۔ اس سے قبل کپتان محمد حریرہ کی 72 رنز کی اننگز کی بدولت سنٹرل پنجاب کی ٹیم نے 177 رنز اسکور

کیے حارث خان نے 4 وکٹیں حاصل کیں۔حنین شاہ کو مین آف دی میچ قرار دیا گیا۔
اسکور کارڈ:

سنٹرل پنجاب انڈر 19: 46.2 اوورز میں 177/10؛ محمد حریرہ 72 اور علی حسن
21، حارث خان 23/4 اور معاذ صداقت 30/2
کے پی انڈر 19: 39 اوورز میں 174/10؛ احمد خان 39 اور محمد فاروق 31، حنین
شاہ 33/3 اور ارحم نواب 34/3

مریدکے کنٹری کلب میں کھیلے گئے میچ میں سندھ نے صائم ایوب کی شاندار آلراؤنڈ
کارکردگی کی بدولت سدرن پنجاب کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ سندھ کی یہ
ایونٹ میں مسلسل تیسری فتح اور سدرن پنجاب کی مسلسل تیسری شکست ہے۔ سندھ
نے 108 رنز کا ہدف صائم ایوب کے 41 رنز کی بدولت 15 ویں اوور میں 5 وکٹوں
کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ کاشف علی 28 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ محبوب احمد
اور فیصل اکرم نے 2،2 وکٹیں حاصل کیں۔ اس سے قبل پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے
سدرن پنجاب کی پوری ٹیم 107 رنز پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ عون شہزاد 46 اور محبوب
احمد 23 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ صائم ایوب اور نیشان ضمیر نے 3،3 کھلاڑوں کو
آؤٹ کیا۔ صائم ایوب کو مین آف دی میچ قرار دیا گیا۔
اسکور کارڈ:

سدرن پنجاب انڈر 19: 37.1 اوورز میں 107/10؛ عون شہزاد 46 اور محبوب احمد
23، صائم ایوب 11/3 اور نیشان ضمیر 23/3
سندھ انڈر 19: 15 اوورز میں 110/5، صائم ایوب 41 اور کاشف علی 28، محبوب
احمد 23/2 اور فیصل اکرم 28/2

About the National U19 One-Day Tournament

- The National One-Day Cricket Tournament 2020-21 for the teenagers will be played from 13 October to 2 November
- Three cities will host 31 matches at four venues, namely Country Club Ground, Muridke (8); Gaddafi Stadium, Lahore (5); LCCA Ground, Lahore (8); Rana Naveed Academy, Sheikhpura (8). Detailed schedule is [here](#)
- More than PKR2million are up for grabs in the tournament as the winning team will bag PKR1million and the best performers will receive PKR50,000 each
- Sindh will defend the title they won after defeating Balochistan by 123 runs in Sheikhpura
- To ensure health and safety of the players and all those involved, the tournament is played under strict Covid-19 [protocols](#)

The tournament serves as a platform for the up and coming cricketers to impress the selectors and

stake a claim in Pakistan U19 side. The six Cricket Association U19 squads are available [here](#)

HELP PREVENT CORONAVIRUS



National Team Partners



Domestic Partners



- www.pcb.com.pk
- @therealpcb
- @PakistanCricketBoard
- @PakistanCricketOfficial
- @therealPCB

PCB Headquarters
Gaddafi Stadium,
Ferozpur Road, Lahore
Pakistan, PO Box 54000
T: +92 42 3571 7231-4